

49693 - کیا غسل جنابت کے دوران ہوا خارج ہونے سے غسل باطل ہو جاتا ہے ؟

سوال

کیا غسل جنابت کرتے وقت اگر ہوا خارج ہو جائے تو غسل باطل ہو جائیگا ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

ہوا خارج ہونا نواقض وضوء میں سے ہے، نہ کہ نواقض غسل میں سے، اس بنا پر دوران غسل جس شخص نے بھی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا، یا اس کی ہوا خارج ہوگئی، یا اس نے پیشاب کیا تو وہ اپنا غسل مکمل کرے، کیونکہ اسکے غسل میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوا، اور غسل کے بعد وضوء کر لے۔

اور حدث اکبر سے کیا جانے والا غسل وضوء سے کفائت کر جاتا ہے، چنانچہ اگر انسان پر غسل جنابت کرنا فرض ہو، اور اس نے غسل کر لیا تو یہ وضوء سے کفائت کر جائیگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور اگر تم جنبی ہو تو طہارت و پاکیزگی اختیار کرو المأدۃ (6) .

غسل کے بعد اس پر وضوء واجب نہیں، لیکن اگر دوران غسل کوئی نواقض وضوء اشیاء میں سے کوئی چیز حاصل ہو تو بعد میں وضوء کرنا ہوگا لیکن اگر دوران غسل کوئی نواقض وضوء چیز پیدا نہ ہو تو یہ غسل وضوء سے کفائت کرے گا، چاہے اس نے غسل سے قبل وضوء کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن کلی اور ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہے، کیونکہ یہ غسل اور وضوء دونوں میں لازمی ہیں۔

دیکھیں: مجموع فتاویٰ الشیخ ابن عثیمین بتصرف (11 / 228) .

والله اعلم .